

نوعمر بالغان کے لیے صحت بیمہ پر مختصر حقائق

یہ 4 اہم چیزیں ہیں آپ کو جان لینا چاہیے

1 آپ کے پاس انتخابات ہیں

ایک نوعمر بالغ فرد کے بطور، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ کو اپنے والدین کے صحت بیمہ پر رہنا ہے۔ اگر آپ خود اپنا بیمہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو NY State of Health پر ڈھیر سارے مل جائیں گے۔ مختلف کوریج کی سطحوں اور ادائیگی کی شرائط پر بہت سارے منصوبے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امکانی طور پر کوئی ایسا مل جائے گا جس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور جو آپ کے بجٹ کے اندر رہیں گی۔

2 آپ کو ایک اچھا سودا مل جائے گا

چاہے ان کی لاگت جو بھی ہو، NY State of Health میں پیش کردہ صحت کے تمام منصوبوں سے صحت کی دیکھ بھال کی 10 کلیدی خدمات پورا ہونا ضروری ہے۔ ان میں نسخے والی دوائیں، ڈاکٹر کی ملاقاتیں، ہسپتال میں دیکھ بھال اور ہنگامی خدمات – حتیٰ کہ روک تھام اور بہبود کی خدمات بھی شامل ہیں۔ لہذا آپ کو ایک اچھا سودا مل جائے گا، چاہے آپ جو بھی بیمہ منصوبہ منتخب کریں۔

3 سستے اختیارات دستیاب ہیں

اہل قرار پانے والوں کے لیے Medicaid اور Essential Plan کم قیمت پر یا بغیر ماہانہ لاگت کے ایک ہی معیار کا کوریج فراہم کرتے ہیں۔ Medicaid میں کوئی پریمیم یا کٹوتی اور معمولی ضمنی ادائیگی نہیں ہے؛ Essential Plan پر ایک ڈالر یومیہ سے کم لاگت آتی ہے، اس میں کوئی کٹوتی اور معمولی ضمنی ادائیگی نہیں ہے۔ دیگر تمام منصوبوں کے لیے، چیک کر کے دیکھیں کہ آیا آپ اپنی لاگت کم کرنے کے لیے مالی مدد کے اہل قرار پاتے ہیں۔

4 New York State نے صحت بیمہ خریدنے اور اس کے لیے ادائیگی کرنے کو آسان بنا دیا ہے

بہت سارے لوگوں کے لیے، بیمہ سے مراد کاغذی کام اور الجھن ہے۔ وہ ہم کرتے ہیں۔ لہذا، ہم نے آپ کے لیے درست منصوبہ منتخب کرنے اور اس کے لیے سائن اپ کرنے کے معاملے میں قدم بہ قدم آپ کی مدد کے لیے کیس سے متعلق ڈھیر سارے تربیت یافتہ ماہرین کو بحال کر رکھا ہے۔ آپ یہ مدد آن لائن، فون پر یا اپنے قیام اور کام کرنے کی جگہ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔



NY State of Health نیو

یاریک کا باضابطہ ہیلتھ پلان
مارکیٹ پلیس ہے۔

اگر آپ کی عمر 19 سال یا اس سے کم ہے اور آپ New York State میں رہتے ہیں تو آپ اتنی قیمت پر صحت بیمہ تلاش کر سکتے ہیں جس کے آپ متحمل ہو سکتے ہیں۔

میں کس طرح اندراج کرواؤں؟

nystateofhealth.ny.gov

یا

1-855-355-5777 یا TTY:

1-800-662-1220

یا

آپ کے گھر یا دفتر کے قریب
مصدقہ معاون سے مفت شخصی
مدد کے ذریعے۔

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، عمر، ازدواجی/فیملی کی حیثیت، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یا بی (بیبوں)، صنفی شناخت، جنسی رجحان، سابق جینیاتی صفات، فوجی حیثیت، گھریلو تشدد کے متاثرین اور/یا انتقامی کارروائی کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا ہے۔